

لہ خولی ٹیٹا یا یفا ننتس بے دوو گے بے رامبےر گے گے لہ لہ کالیاری بردو و



لہ ہفتے 12ی خولے لہ یاریگای خے یا نئی یفا ننتس میوانداری یا نئی کالیاری کرد.

لہ گے می یے کمی یاریے کے ئاستے کی مامناو نندی بے خے یو و بینی و ہردوو یا نہ شکستیان ہنا لہ تمارکردنی گے می یے کم.

لہ گے می دوو ام یا نئی یفا ننتس دستپے شخری کردوو لہ خولے کی 60 گے می پے شکوتنی تمارکرد لہ لایین جیسے ن بریمہری بے رازیلی و لہ خولے کی 70 روگانی دوو ام گے می تمارکرد بے ام پاش پے نج خولے ک کالیاری جیاوازی بے کی بے گے ک مکرد و لہ لایین ئلبہرتے دے سینا .

سے انجام یا نئی یفا ننتس بے دوو گے بے رامبےر گے گے لہ کالیاری بردو و و کی خاے کانی گے یاندے 29 خا بے شوے پیے کی کاتی لہ پے شنگی خولی ٹیٹا یا دے بینرت.